

Maulana Azad National Urdu University

M.A. (Translation Studies) III Semester Examination - December - 2018

Paper : MATS301CCT : Machine Translation - II

پرچہ : مشینی ترجمہ - II

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ اختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال نمبر : 1

(i) ہندوستان میں مشینی ترجمہ کی کوششوں کا آغاز کب ہوا؟

2000-2010 (d)

1990-2000 (c)

1980-90 (b)

1970-80 (a)

سی ڈیک (CDAC) کس کا مخفف ہے؟ (ii)

(b) سنٹر فارڈ یوپمنٹ آف اڈوانسڈ کمپیوٹرینگ

(a) سنٹر فارڈ یوپمنٹ آف اڈوانسڈ کمپیوٹنگ

(d) سنٹر فارڈ یوپمنٹ لرنگ اینڈ اڈوانسڈ کمپیوٹرینگ

(c) سنٹر فارڈ یوپمنٹ لرنگ اینڈ اڈوانسڈ کمپیوٹنگ

(iii) منتر (MANTRA) نظام میں حکومتی دستاویزات، خطوط، اعلاء میں وغیرہ کا انگریزی سے کس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے؟

(d) ان میں سے کوئی نہیں

(c) اردو

(b) ہندی

(a) ملکو

(iv) انوسار کا (ANUSAARKA) کیا ہے؟

(b) تحقیقی ادارہ

(a) مشینی ترجمہ کا نظام (سوفٹ ور)

(d) ان میں سے کوئی نہیں

(c) مشینی ترجمہ پر کتاب کا نام

(v) درست مشینی ترجمہ کے لئے مشین کو تربیت دینے کا مسئلہ 1950ء میں کس نے اٹھایا تھا۔

Warren Weaver (b)

Yeshoma Bar- Hellel (a)

Joseph-Peter (d)

Troyanski (c)

				(vi) ہندوستان میں حکومتی سطح پر مشینی ترجمہ کے میدان میں مالی اعانت کرنے والے ادارے کا نام۔				
			(d) سی ڈیک	(a) سی آئی آئی آئی ایل (b) ٹی ڈی آئی آئی ایل (c) این ٹی ایم				
				انگلہ بھارت و انو بھارتی پرو جکٹ 1991ء میں کہاں شروع ہو۔				
			(vii)	(a) سی آئی آئی آئی ایل میسور (b) آئی آئی آئی ٹی حیدر آباد (c) این ٹی ایم				
				ماڑا (MATRA) کیا ہے؟				
				(a) انسان اعانتی بین لسانیہ پرمی مشینی ٹرانس لٹریشن کا نظام (b) انسان اعانتی منتقلی پرمی مشینی ترجمہ کا نظام				
				(c) انسان اعانتی منتقلی پرمی مشینی ترجمہ کا نظام (d) ان میں سے کوئی نہیں				
				پاکستان کے مرکز تحقیقی CRULP جس کا نام اب CLE ہو گیا ہے، کے بانی کون ہیں؟				
			(ix)	(a) سردم حسین (b) تفسیر احمد (c) عطش درانی (d) رحمت یوسف زئی				
				گوگل ٹرانس لیٹرفی الوقت کتنی زبانوں میں ترجمہ کی آن لائیں سہولت فراہم کر رہا ہے۔				
109	(d)	104	(c)	106	(b)	108	(a)	

حصہ دوم

- .2 مشینی ترجمہ کے تجارتی اطلاعات کیا ہیں۔
- .3 انوسار کا تعارف کرائیے۔
- .4 مشینی ترجمہ کا نظام ماڑا (MATRA) کس طرح کام کرتا ہے؟
- .5 مشینی ترجمہ کے میدان میں IIIT حیدر آباد کے سانی تکنالوژی کے تحقیقی مرکز LTRC کی خدمات کا مختصر جائزہ لبھیے۔
- .6 "ترجمہ کار" کا تعارف کرائیے۔
- .7 مشینی ترجمہ کے تعین قدر پر مختصر نوٹ لکھیے۔
- .8 مشینی ترجمہ کے حوالے سے اردو سرم الخط میں تحقیقی کاموں کا تعارف کرائیے۔
- .9 عالمی پرو جکٹ "اردو کی پیدا یا" پر مختصر نوٹ لکھیے۔

حصہ سوم

- .10 مشینی ترجمہ کے استعمال سے انسانی مترجمین کس طرح فائدہ اٹھاسکتے ہیں، کیا مشینی ترجمہ مترجمین کی ڈیک کے لئے معادن ہے؟
- .11 اردو مشینی ترجمہ کے لئے سی ڈیک پونے کی خدمات کا جائزہ لبھیے۔
- .12 مشینی ترجمہ کے مسائل اور چیلنجز کا مفصل جائزہ لبھیے۔
- .13 ہندوستان میں جاری مشینی ترجمہ کے کاموں کا سر بوط اور مفصل جائزہ لبھیے۔
- .14 آن لائیں مشینی ترجمہ کی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہوئے گوگل ٹرانسلیٹ کا تفصیلی تعارف پیش کیجیے۔